

برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ میں کووڈ-19 کے تیسرے تصدیق شدہ کیس پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان

برامپٹن، آن، (10 اپریل 2020) - 9 اپریل کو سٹی آف برامپٹن کو آگاہ کیا گیا کہ اس کی سینڈل ووڈ کی سہولت گاہ کے ایک ٹرانزٹ آپریٹر میں کورونا وائرس (کووڈ-19) کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ یہ برامپٹن ٹرانزٹ کا تیسرا تصدیق شدہ کیس ہے۔

اس وقت، سٹی کی ترجیح اس شخص اور اس کے خاندان کو معاونت فراہم کرنا اور اپنے ملازمین، کسٹمرز اور کمیونٹی کی صحت و سلامتی کا تحفظ کرنا جاری رکھنا ہے۔

جیسے ہی سٹی کو آگاہ کیا گیا، عملے نے فوراً مشترکہ طور پر اس کی تحقیق کرنے اور اگلے اقدامات کا تعین کرنے کے لیے پیل پبلک ہیلتھ سے رابطہ کیا۔

یہ متاثرہ شخص آخری مرتبہ مورخہ 3 اپریل کو کام پر آیا اور اس نے درج ذیل روٹس پر کام کیا تھا:

- روٹ 501 زوم کوئین
- روٹ 502 زوم مین

مذکورہ بالا دن پر زیر جائزہ بسوں پر سفر کرنے والے لوگ، جو ٹھیک محسوس کر رہے ہیں اور ان میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں، انہیں اپنا روزمرہ کا معمول جاری رکھنا چاہیے اور پبلک ہیلتھ کو کال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں علامات پیدا ہوتی ہیں، تو براہ کرم پبلک ہیلتھ کو کال کریں۔ اگر آپ کو ہنگامی طبی معاونت درکار ہو، تو براہ کرم 911 پر کال کریں پیل پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ٹرانزٹ بسوں پر اس سے زیادہ کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، جتنا کہ عام کمیونٹی میں بھی ہو سکتا ہے۔

سٹی کمیونٹی کو یقین دہانی کروانا ہے کہ یہ ملازمین، کسٹمرز اور کمیونٹی کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانا جاری رکھے گا۔ صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا ایک اضافہ شدہ شیڈول زیر عمل ہے۔ موجودہ طور پر، بسوں کو ہر 24 گھنٹے جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ سہولت گاہوں اور ٹرمینل لنچ رومز، میزوں، کاؤنٹرز اور دروازوں کے ہینڈلز کو دن میں دو مرتبہ صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔

آپریٹرز اور مسافروں کے لیے جسمانی فاصلہ بندی کو ممکن بنانے کے لیے، درج ذیل اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے:

- بسوں میں مسافروں کی تعداد کو آدھی گنجائش تک محدود کر دیا گیا ہے۔
- پچھلے دروازے سے بیٹھنا اور کرایے کے بغیر سفر زیر نفاذ ہیں۔ اس کے علاوہ، آپریٹرز اور مسافروں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے پلاسٹک کی زنجیر جیسی رکاوٹ لگا دی گئی ہے، جبکہ حرکت پذیری کی ڈیوائسز استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے اگلے دروازے سے چڑھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔
- زیادہ مصروف راستوں پر، بسوں میں مسافروں کی جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کی صلاحیت میں معاونت فراہم کرنے کے لیے جڑی ہوئی بسوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔
- سیٹوں پر نشانات لگانے گئے ہیں اور مسافروں کو ان سیٹوں پر نہ بیٹھنے کا کہا جاتا ہے۔
- کم استعمال ہونے والے روٹس پر سروس کو رش کے اوقات اور ویکینڈز پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ جسمانی فاصلہ بندی کو ممکن بنانے اور ہجوم سے نمٹنے کے لیے وسائل کو مصروف ترین روٹس پر منتقل کر دیا گیا ہے۔

سٹی نے پیل پبلک ہیلتھ کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ جبکہ یہ تحقیق جاری ہے، نئی معلومات دستیاب ہوتے ہی فراہم کر دی جائیں گی۔

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت

رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca